



سوال

(322) رات کے باقی ہونے کا گمان کر کے کھانا کھانا اور اٹھائے کھانا اذان کی آواز سن کر کھانا چھوڑ دینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے حسب استطاعت فجر کے وقت کا اندازہ لگایا تو مجھے گمان ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، میں سحری کے لیے اٹھی، اسی دوران میں نے فجر کی اذان سنی تو میں نے کھانے کا لقمہ پھینک دیا اور روزے کی نیت کر لی، کیا میرا روزہ درست ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

روزہ صحیح اور درست ہے، اس لیے کہ اس نے فجر واضح ہونے کے بعد کچھ نہیں کھایا۔ (فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 284

محدث فتویٰ